

## اس موسم گرما میں تمام نیویارک شہر کے طلباء کے لیے تدریس کو جاری رکھنے کے لیے مفت ای بکس اور تدریسی ذرائع

**Sora** (سورا) ایک صارف دوست ای ریڈر (e-reader) ایپ ہے جو K-12 تک کے طلباء کو ای بکس (eBooks) اور ڈیجیٹل آڈیو کتب تک رسائی دیتا ہے۔ اس موسم گرما میں، نیویارک شہر پبلک اسکولوں کے طلباء کو Sora کے ذریعے سینکڑوں مصروف عمل رکھنے والے عنوانات تک رسائی حاصل ہو گی۔ مطالعہ نگار گریڈ سطح کی ای بکس اور ڈیجیٹل آڈیو کتب کو مختلف زبانوں اور گریڈ سطحوں میں باآسانی اپنے **DOE طلباء اکاؤنٹ** پر لاگ ان ہو کر تلاش کر سکتے ہیں۔ Sora ایپ محکمہ تعلیم کی جاری کردہ آئی پیڈز پر دستیاب ہے اور اسے کسی بھی انٹرنیٹ کے قابل آلے (ڈیوائس) پر یا **Sora ویب سائٹ** پر جا کر ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ Sora شروع کرنے کے لیے [discoversora.com/nyc](https://discoversora.com/nyc) پر ہدایات کا جائزہ لیں!



نیویارک شہر اسکول لائبریری سسٹم نے افسانوی اور غیر افسانوی ای بکس کا ایک مجموعہ تشکیل دیا ہے۔  
مجموعہ دیکھیں۔ ای بکس تک رسائی کے لیے، براہ کرم <https://galepages.com/nycdoe11/ebooks> پر جا کر مکمل [libraries@schools.nyc.gov](mailto:libraries@schools.nyc.gov) پر ای میل کر کے صارف نام (یوزر نیم) اور حرف راز (پاس ورڈ) حاصل کریں۔



**NOVELny** (نیویارک آن لائن ورچنل الیکٹرانک لائبریری) ایک تحقیق ڈیٹابیس پر مبنی ہے جس تک طلباء دن میں 24 گھنٹے، ہفتے میں سات دن رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ نیویارک ریاست میں NOVELny تک رسائی کے لیے لاگ ان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس ڈیٹا بیس میں متن، اخبارات، رسالے، ہسپانوی زبان کے ذرائع، بنیادی ذرائع، اور ساتھ میں انسائیکلو پیڈیا شامل ہیں۔ ڈیٹابیس کی ایک مکمل فہرست کے لیے <https://galepages.com/nycdoe11> پر جائیں۔ نیویارک سے باہر ڈیٹا بیس تک رسائی کے لیے براہ کرم [libraries@schools.nyc.gov](mailto:libraries@schools.nyc.gov) پر جا کر صارف نام (یوزر نیم) اور حرف راز (پاس ورڈ) حاصل کریں۔ براہ کرم متوجہ ہوں کہ ان میں تیسرے فریق کے کچھ ذرائع صرف انگریزی میں ہی دستیاب ہو سکتے ہیں۔

